



سوال

(169) دیہات میں نماز جمعہ

جواب



السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ

جمعہ کی نماز کے بارے میں علماء سے یہ سنا ہے کہ جمعہ کی نماز شہر میں ہوگی۔ آج کل چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں بھی جمعہ ہوتا ہے۔ اور اگر دیہاتوں میں جمعہ ہو جاتا ہے تو پھر اکیلا یا کسی اور مسجد میں جماعت کے ساتھ ظہر پڑھنا کیسا ہے؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

نماز جمعہ شہر اور دیہات ہر جگہ قائم ہو سکتی ہے۔ ممانعت کی کوئی قطعی دلیل موجود نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث کے عموماً سے دیہات اور شہر سب مساوی ہیں۔ جمعہ کی نماز کے لیے جماعت کا ہونا ضروری ہے اور جماعت صرف دو آدمیوں سے بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

الاثنان فما فوقهما جماعۃ (مستدرک حاکم: 8027)

دو اور اس سے زائد افراد جماعت ہیں۔

اس لیے ہر گاؤں والوں پر جمعہ کی نماز بلاشبہ فرض ہے۔ جمعہ کی نماز کے لیے کسی معین تعداد چالیس یا پندرہ کا ضروری ہونا کسی معتبر حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اور جمعہ کے بعد احتیاطی طور پر نماز ظہر پڑھنا بدعت اور ضلالت ہے۔ اس کا کوئی ثبوت قرآن و حدیث اور عمل صحابہ سے موجود نہیں ہے۔

هذا ما عندي والله أعلم بالصواب

فتویٰ کمیٹی

محدث فتویٰ